

ابتدائی نگہداشت و تعلیم کے پروگرام بے گھری کا سامنا کرنے والے خاندانوں کے لیے

اگر آپ کا خاندان پناہ گاہ یا عارضی رہائش میں ہے تو آپ مفت ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کی خدمات کے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس میں وہ خاندان شامل ہیں جو ہو سکتا ہے رہائش سے محرومی، معاشی دشواری، یا ایسی ہی کسی سبب سے دوسروں کی رہائش میں اشتراک کر رہے ہوں۔ اگر آپ کا خاندان اہل ہے تو، آپ کے پاس ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کے کئی متبادلات ہیں۔ اور اگر جگہ دستیاب ہے تو آپ کبھی بھی اپنے بچے کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، نقد امداد پانے والے لیکن انسانی وسائل کی انتظامیہ (Human Resource Administration, HRA) کے ذریعے نگہداشت اطفال کی مراعات کے لیے غیر اہل خاندان اب محکمہ تعلیم (Department of Education, DOE) یا بچوں کی خدمات کی انتظامیہ (Administration of Children's Services, ACS) کے ذریعے نگہداشت اطفال کی مراعات کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

مبتدلات

3-K فار آل

NYC خاندان مفت، پورے دن، اعلیٰ معیار کے Pre-K فار آل کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ پروگرام تمام اسکول ڈسٹرکٹس میں عارضی رہائش میں رہنے والے خاندان کو دستیاب ہیں۔ اپنے بچے کے تین سال کے ہونے والے تقویمی سال میں خاندان 3-K کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔

عمریں: 3 سال
پروگرام: مرکز، اسکول، اور گھر پر مبنی
اوقات: پورے سال، روزانہ 10 گھنٹے تک

www.nyc.gov/3k

EarlyLearn

DOE کے EarlyLearn پروگرام، بشمول ارلی ہیڈ اسٹارٹ (Early Head Start)، شیر خوار اور نونہالوں کے لیے ابتدائی نگہداشت اور تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ یہ پروگرام عارضی رہائش میں رہنے والی آمدنی کے لحاظ سے اہل خاندان کے لیے مفت ہیں۔

عمریں: 2 - 0 سال کی عمر
پروگرام: مرکز اور گھر پر مبنی
اوقات: پورے سال، روزانہ 10 گھنٹے تک

www.nyc.gov/earlylearn

چائلڈ کیئر واؤچرز

چائلڈ کیئر واؤچرز پورے شہر میں گھر اور مرکز پر مبنی سیکڑوں فراہم کنندگان کے پاس نگہداشت اطفال کے اخراجات کی ادائیگی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ واؤچرز کو نگہداشت کے مدنظر منظور شدہ رشتہ داروں، پڑوسیوں، یا دوستوں کو ادائیگی کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واؤچر موصول کرنے کے لیے عارضی رہائش میں رہنے والے خاندانوں کو ترجیح دی جائے گی۔

عمریں: 6 ہفتے - 13 سال کی عمر (یا معذور بچوں کے لیے 19 سال کی عمر تک)
پروگرام: مرکز اور گھر پر مبنی
اوقات: پورے سال، روزانہ 24 گھنٹے تک

nyc.gov/childcarevouchers

Pre-K فار آل (Pre-K for All)

NYC خاندان مفت، پورے دن، اعلیٰ معیار کے Pre-K فار آل کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ آمدنی یا ضروریات سے قطع نظر، یہ پروگرام تمام اسکول ڈسٹرکٹس میں تمام خاندانوں کو دستیاب ہیں۔ آپ کے بچے کے چار سال کے ہونے والے تقویمی سال میں خاندان Pre-K کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔

عمریں: 4 سال
پروگرام: مرکز اور گھر پر مبنی
اوقات: پورے سال، روزانہ 10 گھنٹے تک

www.nyc.gov/prek

ابتدائی نگہداشت و تعلیم کے پروگرام بے گھری کا سامنا کرنے والے خاندانوں کے لیے

درخواست کیسے دیں

چائلڈ کیئر واؤچرز کے لیے:

کسی پروگرام کی نشاندہی کریں

- رجسٹرڈ ہوم بیسڈ فراہم کنندگان کی ڈائریکٹری دیکھنے کے لیے DOHMH کے چائلڈ کیئر کنیکٹ پورٹل پر لائسنس یافتہ ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کے مراکز، اسکول پر مبنی پروگرامز، اور اجازت یافتہ سمر کیمپس یا OCFS کے چائلڈ کیئر سرچ ٹول پر جائیں۔
- اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس پروگرام میں شریک ہونا ہے تو ٹھیک ہے – آپ یہ معلومات شامل کیے بغیر نگہداشت اطفال کی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔
- مدد کے لیے (212) 835-7610 پر فون کریں یا اس پتہ پر ای میل کریں:
temporaryhousingRA@acs.nyc.gov

درخواست دیں

- ایک درخواست فارم پُر کریں (نشان زد کریں کہ آپ عارضی رہائش میں ہیں):
<https://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/forms.page>
- اپنا درخواست فارم ACS میں اسے temporaryhousingRA@acs.nyc.gov پر ای میل کر کے یا اسے، NYC Children – EDU, PO Box 40, Maplewood, N.J., 07040 کے پتے پر ڈاک سے بھیج کر جمع کرانیں۔
- اگر اہل ہیں تو، آپ کو ایک واؤچر جاری کیا جائے گا جسے آپ مکمل کر کے ACS کو واپس بھیجیں گے۔

EARLYLEARN، 3K فار آل، یا PRE-K فار آل کے لیے:

کسی پروگرام کی نشاندہی کریں

- EarlyLearn، 3K، اور Pre-K فار آل پروگراموں کی ڈائریکٹری کے لیے www.MySchools.nyc/schools ملاحظہ کریں۔
- "More Filters" (مزید فلٹرز) والا ٹیب استعمال کریں اور "Head Start" (ہیڈ اسٹارٹ) یا "Extended Day/Year" (توسیعی دن/سال) منتخب کریں اگر آپ کو پورے سال (بشمول موسم گرما کے مہینوں کے دوران) نگہداشت فراہم کرنے والے پروگراموں میں دلچسپی ہو
- 2009-935-718 پر فون کریں، ای میل کریں: ES_Enrollment@schools.nyc.gov یا مدد کے لیے DOE فیملی ویلکم سنٹر (DOE Family Welcome Center) پر تشریف لے جائیں

درخواست دیں:

3K، Early Learn فار آل یا PreK فار آل کے توسیعی دن/سال کے پروگرام کے لیے

- ہیڈ اسٹارٹ پروگراموں کے لیے:
براہ راست پروگرام کی معرفت درخواست دیں (ہدایات کے لیے ان کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا کال کریں)۔ عارضی رہائش میں مقیم خاندان آمدنی یا ترک تارک کی حیثیت سے قطع نظر ہیڈ اسٹارٹ کے لیے اہل ہیں
- دیگر تمام پروگراموں کے لیے:
ایک ایپلیکیشن فارم پُر کریں: bit.ly/childcareeligibility
- اپنی ایپلیکیشن اپنے پروگرام کے پاس یا DOE کے پاس CCapplication@schools.nyc.gov پر اسے ای میل کر کے یا Family Welcome Center, 333 7th Avenue 12th floor یا New York, NY, 10001 پر ڈاک سے بھیج کر جمع کرانیں

درخواست دیں:

3K فار آل یا PreK فار آل کے اسکول دن/سال پروگراموں کے لیے

- براہ راست 3K یا Pre-K پروگرام کو فون کر کے فوری جگہوں یا نشست کب دستیاب ہو سکتی ہے اس بارے میں جانیں۔ ان پروگراموں کے لیے اہلیت کا تعین لازمی نہیں ہے۔